

بـسـمـ اللـهـ رـحـمـةـهـ وـلـهـ كـلـ الـحـمـدـ



መመሪያ ቅም

- (1) የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 16-ን ማስቀመጥ ይችላል
2019-06-06 ዓ.ም. 11:00
(2) ስም: (3) የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 29-ን ማስቀመጥ ይችላል
11:00
(4) ደረጃ: (5) ስም: (6) የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 06-ን ማስቀመጥ ይችላል
11:00
(7) የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 29-ን የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 06-ን ማስቀመጥ ይችላል

ዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 06-ን የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 29-ን ማስቀመጥ ይችላል
የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 06-ን የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 29-ን ማስቀመጥ ይችላል

2019-06-16



መመሪያ
ሰነድ
የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 06-ን የዚህ መመሪያ ስንጻ አንቀጽ 29-ን ማስቀመጥ ይችላል

چار سو ستمہ

1	سٹوڈیوں میں اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
2	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
3	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
4	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
5	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
6	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
7	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
8	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
9	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
10	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
11	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
12	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
13	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
14	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے
15	کسی نہیں کو اپنے خود کے طور پر پیش کرنے والے



سند معتبر - ۱

مکانیزم انتخاباتی

نامه معتبر

نامه معتبر	تاریخ انتشار	مکانیزم انتخاباتی	توضیحات
۱	۰۳ آذر ۱۴۰۰	پیروزی دکتر سید علی خامنه‌ای	جعفری سیاست خواهی و پژوهش اسلامی و ایرانی
۲	۱۸ بهمن ۱۴۰۰	پیروزی دکتر روحانی	پیروزی دکتر روحانی
۳	۲ فروردین ۱۴۰۱	پیروزی دکتر روحانی	پیروزی دکتر روحانی
۳.۱	۲ فروردین ۱۴۰۱	پیروزی دکتر روحانی	پیروزی دکتر روحانی
۳.۲	۲۰ فروردین ۱۴۰۱	پیروزی دکتر روحانی	پیروزی دکتر روحانی
۴	۱ (فیض) پیروزی دکتر روحانی	پیروزی دکتر روحانی	پیروزی دکتر روحانی
۵	۱۷ فروردین ۱۴۰۱	پیروزی دکتر روحانی	پیروزی دکتر روحانی
۶	۱۷ فروردین ۱۴۰۱	پیروزی دکتر روحانی	پیروزی دکتر روحانی



(۱) بیوی خاتون کی دعویٰ

7.1	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
7.2	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
7.3	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
7.4	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
8.1	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
8.2	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
8.3	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.1	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.2	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.3	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.4	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.5	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.6	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.7	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.8	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.9	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.10	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.11	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
9.12	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ

(۲) بیوی خاتون کی دعویٰ

10.1	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
11.1	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
12.1	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
14.1	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
14.2	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ

(۳) بیوی خاتون کی دعویٰ

14.1	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ
14.2	بیوی خاتون کی دعویٰ	بیوی خاتون کی دعویٰ



مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے

14.3 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

14.4 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے

۱۵. جائز و مجاز

14.5 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

15.1 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

15.2 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

16.1 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

17.1 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

17.2 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

18.1 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے

19.1 مذکور اتفاق کا نام "جائز و مجاز" ہے اسی دن پر ایک ایسا مذکور اتفاق ہوا کہ اسی کا نام مذکور ہے



لر و میخانه های اسلامی، پارک های تاریخی و طبیعی، قلعه های تاریخی و آثار باستانی، فرهنگی و هنری ایرانی.



መ/ቤት ቀን/ቤት 2-

አማራር ገዢ የ/ቤት ምርጥ/ቤት መሆኑን የ/ቤት ተ/ቤት ቀን/ቤት

(+) በ/ቤት ምርጥ/ቤት የ/ቤት ምርጥ/ቤት መሆኑን የ/ቤት ተ/ቤት ቀን/ቤት

አማራር ገዢ የ/ቤት ምርጥ/ቤት

መሆኑን የ/ቤት ምርጥ/ቤት

መሆኑን የ/ቤት ምርጥ/ቤት

24.1	አማራር ገዢ የ/ቤት ምርጥ/ቤት መሆኑን የ/ቤት ተ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
24.2	አማራር ገዢ የ/ቤት ምርጥ/ቤት መሆኑን የ/ቤት ተ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
24.3	አማራር ገዢ የ/ቤት ምርጥ/ቤት መሆኑን የ/ቤት ተ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
24.4	አማራር 10 ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
24.5	አማራር 10 ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
24.6	አማራር UKG LKG አማራር ገዢ የ/ቤት ምርጥ/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
24.7	አማራር 10 ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
25.1	አማራር 10 ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
25.2	አማራር 10 ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
26.1	አማራር 10 ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት
26	አማራር 10 ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት መ/ቤት ቀን/ቤት



١ - **النحو**

#	النحو
١	صيغة المعرفة والبيان في المفردات والجمل المترافقه صيغة المعرفة والبيان في المفردات والجمل المترافقه (النحو ٢)
٢	معنى المعرفة في الجمل المترافقه معنى المعرفة في الجمل المترافقه
٣	معنى المعرفة في الجمل المترافقه / (النحو ٣)
٤	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ٤)
٥	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ٥)
٦	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ٦)
٧	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ٧)
٨	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ٨)
٩	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ٩)
١٠	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ١٠)
١٢	معنى المعرفة (النحو ١٢)
١٣	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ١٣)
١٤	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ١٤)
١٥	معنى المعرفة في الجمل المترافقه
١٦	معنى المعرفة في الجمل المترافقه / (النحو ١٦)
١٧	معنى المعرفة في الجمل المترافقه (النحو ١٧)



مختصرہ 2

پوچھنے والوں کی سوالات

پوچھنے والوں کی سوالات	
	1. سچے اور غلطے کی تعریف کیا ہے؟
	1.1 سچے
	1.2 غلطے
	2. پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	2.1 پوچھنے والوں کی تعریف کیا ہے؟
	2.2 پوچھنے والوں کی تعریف کیا ہے؟
	3. پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	3.1 پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	3.2 پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	3.3 پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	4. پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	4.1 پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	4.2 پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	4.3 پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟
	5. پوچھنے والوں کی سوالات کی تعریف کیا ہے؟



3 نمبر

کریم خان و شاہزادہ کے نام

1. کریم خان کی قومیت و جدید ترقیات

	نام	-1.1
	کریم خان پر نامخواہ قبیلہ خانہ شاہزادہ	-1.2
	کریم خان پر نامخواہ	-1.3
	کریم خان پر نامخواہ	-1.4
	حکومت پر نامخواہ ملکہ شاہزادہ ریاست سکندر خانہ شاہزادہ	-1.5
	پاکستان پاکستان پر نامخواہ	-1.6
	کریم خانہ شاہزادہ	-1.7
	پاکستان پاکستان	-1.8

2. کریم خان و شاہزادہ کی قومیت و جدید ترقیات (کہ کریم خان و شاہزادہ پر نامخواہ کیا تھی اس کا کوئی پاس کرنے کا سعی نہیں کیا تھا۔

(کہ کریم خان و شاہزادہ پر نامخواہ کیا تھی اس کا کوئی پاس کرنے کا سعی نہیں کیا تھا۔)

نام	نام	#
کریم خان و شاہزادہ		
کریم خان		
کریم خان		

3. کاریم خان و شاہزادہ کی قومیت و جدید ترقیات



شماره 6

فروخت پر کاریج نامہ نویسی نامہ نویسی نامہ نویسی

برائے فروخت نامہ نویسی

نامہ نویسی کیفیت کیفیت	نامہ نویسی کیفیت	فروخت پر کاریج نامہ نویسی نامہ نویسی نامہ نویسی	فروخت پر کاریج نامہ نویسی نامہ نویسی
30	60	35) 60 × 35 / نامہ نویسی کیفیت خوبی کیفیت خوبی (خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی)	35
10	20	20 × 20 / نامہ نویسی کیفیت خوبی کیفیت خوبی (خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی)	20
3	10	10 × 10 / نامہ نویسی کیفیت خوبی کیفیت خوبی (خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی)	نامہ نویسی خوبی کیفیت خوبی
2	10	10 × 10 / نامہ نویسی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی کیفیت خوبی 20% نامہ نویسی کیفیت خوبی کیفیت خوبی	نامہ نویسی خوبی کیفیت خوبی
45	100		45



7 පෙන්වන
යුතුව සිංහල

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS, [name of Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid for the Project no..... issued by the Ministry of Finance and Treasury on for construction of [name of Contract] (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We [name of Bank] of [name of country] having our registered office at (hereinafter called "the Bank") are bound unto [name of Purchaser] (hereinafter called "the Purchaser") in the sum of *..... for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this day of 20.....

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;
or
- (2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:
 - (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
 - (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
 - (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE..... SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS, SEAL

[signature, name, and address]



Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To:

*[name & address of Purchaser]**[.....]*

WHEREAS *[name and address of Supplier]* (hereinafter called "the Supplier") has undertaken, in pursuance of Contract No. dated to execute *[name of Contract and brief description of Works]* (hereinafter called "the Contract");

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of * *[amount of Guarantee]* *[amount in words]*, such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of *[amount of Guarantee]* as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR

Name of Bank

Address

.....

.....

Date



Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To:
 [name & address of Purchaser]

 [name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, [name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") shall deposit with [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of [amount of Guarantee] [amount in words].

We, the
 [Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding * [amount of Guarantee]
 [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between [name of Purchaser] and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until [name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL:

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION:



مکانیکی ملٹری فوج کی خدمت میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت

10 نمبر ۶

مکانیکی ملٹری فوج کی خدمت میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت

نمبر ۳۰۹ - ۱

بھروسہ میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت
1.1

بھروسہ میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت
1.2

بھروسہ میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت
1.3

بھروسہ میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت
1.4

بھروسہ میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت
1.5

بھروسہ میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت
1.6

SS, S, M, L گروپ
1.7

SS, S, M, L, XL, XXL گروپ
1.8

Size	T-shirt, long-sleeved Price											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Price												

Size	T-shirt, short-sleeved Price											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Price												

Size	Short Price		
	SS	S	M
Price			

Size	Tracksuits Price					
	SS	S	M	L	XL	XXL
Price						

نمبر ۳۰۹ - ۲

بھروسہ میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت
2.1

بھروسہ میں اپنے سارے نام و نسخہ کو تحریر کرنے والے افسوس میں قیدیوں کی خدمت



فروخت	دستہ بندی خود کی خدمت
-------------	-----------------------

امان سکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ



- ۱۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 12 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۲۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 14 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۳۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 12 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۴۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 14 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۵۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 12 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۶۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 14 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۷۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 12 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۸۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 14 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۹۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 12 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۱0۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 14 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۱1۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 12 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
 - ۱2۔ اسکول پرنسپل کا ملکی سوچ کے ساتھ ڈیزائن کا دفعہ 14 گرامی ڈیجیٹرال پرینٹ کرنا۔
- سیچنگ کے لئے پانچ نئے نام لے کر عوامی آنکھیں بند کر دیں۔



12 میٹر

جی سیکھ، جی سیکھ
جی سیکھ، جی سیکھ

T-Shirt, short sleeved (L.K.G to Gr:10)												
Size	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Length	14	16	18	20	21	22	23	25	28	29	30	31
Width	22	25	25	28	33	34	35	36	37	38	39	40
Sleeve	5	5	5	5	6	6.5	7	8	9	10	11	12


T-Shirt, Long sleeved (L.K.G to Gr:10)												
Size	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Length	14	16	18	20	21	22	23	25	28	29	30	31
Width	22	25	25	28	33	34	35	36	37	38	39	40
Sleeve			17	17	18	19	20	21	22	23	24	24

Tracksuits (Grade: I to 10)						
Size	SS	S	M	L	XL	
Length	28	29	30	35	40	45
Waist	22	26	28	29	30	35

Short (LKG & UKG)						
Size	SS	S	M	L	XL	
Length	13	15	17	19	21	23
Waist	21	23	25	27	29	30

جی سیکھ، جی سیکھ، جی سیکھ

جی سیکھ



جی سیکھ، جی سیکھ، جی سیکھ، جی سیکھ، جی سیکھ، جی سیکھ

۲۰۰

2. د. مەندىھىن ئۇنىڭ يەخىجىقىلىرىنىڭ ئۆزىن، ئەچىن دەرىجىنىڭ ئەسلىقىلىرىنىڭ ئۆزىن
ئەندىھىن ئۇنىڭ يەخىجىقىلىرىنىڭ ئۆزىن، ئەچىن دەرىجىنىڭ ئەسلىقىلىرىنىڭ ئۆزىن

۱۷۴۰ء میں ریوویو فریڈرکس برگر کو مردہ کر دیا گیا۔

لر و میخانه هایی که در آنها از این اتفاق خبر داشتند، از آنها پرسیدند که آنها از این اتفاق چه شنویدند؟



جستجوی کتاب و نسخه در کتابخانه

جستجوی کتاب و نسخه در کتابخانه

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره کتابخانه:

شماره کتابخانه:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

جستجوی کتاب و نسخه در کتابخانه جستجوی کتاب و نسخه در کتابخانه جستجوی کتاب و نسخه در کتابخانه

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره:

شماره کتابخانه:

شماره کتابخانه:

پذیرفته شده شماره:

پذیرفته شده شماره:

